



97798 - مريض کو زيردستي روزہ رکھنے دينا

سوال

میری خالہ کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس بچی کو رونا نہیں چاہیے؛ کیونکہ یہ اس کی آنکھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، چنانچہ جب یہ بچی بالغ ہوئی تو والد نے اسے میڈیکل رپورٹ کی بنا پر روزہ رکھنے سے منع کر دیا، یہ عورت دینی امور کا بہت خیال رکھنے والی ہے۔ شادی کے بعد خالہ نے دیکھا کہ روزہ اس پر اثرانداز نہیں ہوتا تو اس نے روزے رکھنا شروع کر دی، سوال یہ ہے کہ: اب وہ اکثر ایام روزے رکھتی ہے تا کہ اس کے والد کو عذاب نہ ہو اور وہ اپنے والد - رحمہ اللہ - سے بہت پیار کرتی ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ: کیا اس کے والد پر حرام اشیاء میں سے تو کچھ نہیں، اور کیا رہ جانے والے روزے اس پر رکھنے واجب ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

بیماری ان مباح عذر میں شامل ہوتی ہے جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

الله سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم میں سے جو کوئی بھی مريض ہو یا مسافر تو وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کری [البقرة \(185\)](#)۔

MRIض کے لیے روزہ رکھنے کا حکم مکروہ اور حرام کے مابین گھومتا ہے، اگر بیماری کی بنا پر روزہ مشقت کا باعث ہو تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر اسے نقصان اور ضرر دے تو حرام ہو گا۔

اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (50555) اور (38532) کے جوابات کا مطالعہ کریں۔

اور بیماری کی حالت میں MRIض اس وقت تک روزہ نہ چھوڑے جب تک کہ اس بیماری کا سپیشلیست ڈاکٹر اور بعض علماء کرام اسے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت کریں، اور شرط یہ ہے وہ ڈاکٹر مسلمان ہو۔

اور جس شخص نے بھی ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ نہ رکھا اس پر کوئی حرج نہیں، اور اگر بیماری دائمی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اس کے بدلے میں ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھائیے، اور جس کی بیماری وقتی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور تندرست ہونے کے بعد اس کی قضاء کرتے ہوئے روزہ رکھ لے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں:

جب تجربہ کار اور مابر ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی بیماری ان امراض میں شامل ہے جن سے شفایابی کی امید نہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان المبارک کے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھائیں، اور آپ کے ذمہ روزہ نہیں ہوگا، کہانے مقدار نصف صاع اس علاقے کی غذا ہے مثلاً کھجور، یا چاول وغیرہ، اور اگر آپ کسی مسکین کو صبح یا شام کا کھانا کھلانا کھلا دیں تو یہ کافی ہوگا۔

لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ بیماری سے شفایابی کی امید ہے تو آپ کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں، بلکہ جب شفایاب ہوں تو روزے رکھنا واجب ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر تو وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کرے۔

اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہر مریض کو ہر قسم کی بیماری سے شفایابی نصیب فرمائے، اور جو تکالیف اور بیماری آپ کو پہنچی ہے اسے آپ کے کتابوں کا کفارہ اور باعث پاکیزگی بنائے، اور آپ کو صبر و تحمل عطا فرمائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر عطا کرنے والا ہے "انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن باز (221 / 15).

سوال تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مریض عورت کا والد گنہگار نہیں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹروں کی کلام کی وجہ سے ہی روزہ نہیں رکھنے دیا۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذیل سوال کیا گیا:

مجھے گردوں کی بیماری ہے، اور دو بار میرا آپریشن بھی ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے مجھے نصیحت کر رکھی ہے کہ میں دن رات میں روزانہ ڈھائی لیٹر پانی پیؤں، اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلسل تین گھنٹے پانی نہ پینا میرے لیے خطرناک ہے، تو کیا میں ان کی کلام پر عمل کروں، یا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے روزہ رکھ لوں، اور وہ یہ بات یقین سے کہتے ہیں کہ میرے اندر پتھری توڑنے کی استعداد ہے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اگر میں روزہ نہ رکھوں تو میرے ذمہ کیا کفارہ آتا ہے؟

کمیٹی کے علماء کا جواب تھا:

"اگر تو معاملہ بالکل ایسا بھی ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے، اور یہ ڈاکٹر طب میں مابر ہیں تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا مشروع ہے؛ تا کہ آپ اپنی صحت کو بحال رکھ سکیں؛ اور اپنے سے ضرر اور نقصان دور رکھ سکیں، پھر اگر آپ کو اس سے شفا حاصل ہو اور بغیر کسی تکلیف اور حرج کے آپ روزے قضاۓ رکھنے کی استطاعت رکھیں تو آپ



کے نہ قضاء کے روزے رکھنا فرض ہونگے۔

لیکن اگر آپ کی بیماری ختم نہ ہوئی، یا مسلسل پانی پیئے بغیر پتھری پیدا ہونے کی استعداد ہو جائے، اور ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں کہ اس سے شفایابی ممکن نہیں، تو اس حالت میں آپ ہر روزہ کے بدلتے ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا "انتہی"۔

الشيخ عبد العزیز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفیقی، الشيخ عبد الله بن غدیان، الشيخ بن منیع.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (10 / 179 – 180) .

اور جب مریضہ بغیر کسی ضرر کے اپنے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت محسوس کرے تو اسے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے ماہر ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کرنا ضروری ہے، تا کہ کہیں وہ اپنی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھا جائے، اور روزہ رکھنے سے اس کی صحت متاثر نہ ہو۔

اور رہا ان ایام کی قضاء کا مسئلہ جن ایام کے اس نے روزے نہیں رکھے ظاہر تو یہی ہوتا ہے اس کی قضاء لازم نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ہر دن کے بدلتے ایک مسکین کو کھانا کھلانا کافی ہے، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ نہیں رکھا تھا۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک دائمی بیماری شخص والے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے بارہ میں ڈاکٹر حضرات کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی روزہ نہ رکھے، لیکن اس نے کسی اور ملک کے ڈاکٹر حضرات سے علاج کروایا تو اسے اللہ کے حکم سے شفا مل گئی، اور اس نے پانچ برس کے رمضان میں روزے نہیں رکھے تھے، اب شفاملنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، آیا وہ ان کی قضاء میں روزے رکھے یا نہیں؟

تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ جواب تھا:

اگر تو اسے روزہ نہ رکھنے کی نصیحت کرنے والے ڈاکٹر مسلمان اور ماہر اور تجربہ کار اور اس بیماری کو جاننے والے تھے، اور انہوں نے اسے اس بیماری سے شفایاب نہ ہونے کا کہا تھا، تو اس کے نہ ان روزوں کی قضاء نہیں، بلکہ صرف کھانا کھلانا ہی کافی ہے، اور آئندہ وہ روزے رکھے"

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن باز (15 / 355) .

خلاصہ:

جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ: باپ نے ڈاکٹروں کے کہنے کی بنا پر بیٹی کو روزہ نہیں رکھنے دیا تو اس وجہ سے باپ

گنگار نہیں، بلکہ عورت کو چاہیے کہ اس نے بلوغت کے بعد جتنے روزے نہیں رکھے ان میں سے ہر یوم کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اور اگر اب ڈاکٹر حضرات نے اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں تو اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور روزہ نہ رکھنے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر وہ نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے تو رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

والله اعلم۔